

سندھ ایکٹ نمبر III مجریہ ۱۹۸۶

SINDH ACT NO.III OF 1986

سندھ فنانس ایکٹ، ۱۹۸۶

THE SINDH FINANCE ACT, 1986

فہرست (CONTENTS)

تمہید (Preamble)

دفعات (Sections)

۱۔ مختصر عنوان اور شروعات

Short title and commencement

۲۔ ۱۸۹۹ کے ایکٹ II کی ترمیم

Amendment of Act II of 1899

۳۔ ۱۹۵۸ کے W.P Act X کی دفعہ ۳ کی ترمیم

Amendment of Section 3 of W.P Act X of 1958

۳۔ ۱۹۶۳ کے W.P Act IX کی منسوخی

Repeal of W.P. Act IX of 1963

سندھ ایکٹ نمبر III مجریہ ۱۹۸۶

SINDH ACT NO.III OF 1986

سندھ فنانس ایکٹ، ۱۹۸۶

THE SINDH FINANCE ACT, 1986

[۳۰ جون ۱۹۸۶]

تمہید (Preamble)

ایکٹ جس کی توسط سے صوبے سندھ میں کن محصولوں کو معقول بنایا اور کن محصولوں کو ختم کیا جائے گا اور کچھ قوانین میں ترمیم کی جائے گی۔ جیسا کہ صوبے سندھ میں کن محصولوں کو معقول بنانے اور کن محصولوں کو ختم کرنے اور کچھ قوانین میں ترمیم لانا مقصود ہے، جو اس طرح ہوگی؛ اس کو اس طرح نافذ کیا جائے گا:

مختصر عنوان اور
شروعات

۱۔ (۱) اس ایکٹ کو سندھ فنانس ایکٹ، ۱۹۸۶ کہا جائے گا۔

Short title and
commencement

(۲) یہ فی الفور نافذ ہوگا اور پہلی جولائی ۱۹۸۶ سے نافذ العمل ہوگا۔

۱۸۹۹ کے ایکٹ II
کی ترمیم

Amendment of
Act II of 1899

۲۔ اسٹیمپ ایکٹ، ۱۸۹۹ میں، صوبے سندھ میں نافذ کرنے کے لیے، دفعہ ۲۷ کے بعد مندرجہ ذیل نئی دفعہ شامل کی جائے گی:

(شہری غیر منقولہ جائیداد کی قیمت طے کرنا)
"27-A-27۔ جب کسی چیز پر شیڈول پہلے کے آرٹیکل ۲۳ یا آرٹیکل ۳۱ کے تحت محصول لیا جاتا ہے، جائیداد کی قیمت مخصوص علاقے یا مقامی جگہ پر کلیکٹر کی طرف سے بتائی گئی قیمت والی ٹیبل کے تحت لگائی جائے گی۔

بشرطیکہ قیمت والی ٹیبل میں قیمت بتائی گئی قیمت ایسی جائیداد پر لاگو ہو، جو محسوس ہو کہ زیادہ ہے، تو کمشنر متاثرہ شخص کی درخواست پر غور کر کہ، صحیح نرخ مقرر کر سکتا ہے اور اس مقصد کے لیئے دفعہ ۳۱ اور دفعہ ۳۲ کی گنجائشیں ضروری تبدیلی کے ساتھ نافذ ہوں گی۔"

(b) آرٹیکل ۲۳ کے پہلے شیڈول میں اس کو متبادل بنایا جائے گا:

"۲۳۔ کنوینس ٹرانسفر (Conveyance Transfer) جیسے دفعہ (۱۰) ۲ میں بتایا گیا ہے، نمبر ۶۲ کے تحت لیئے جائیں گے اور ان پر چھوٹ دی جائے گی:

<p>ہر ایک سو روپے یا اس کے کس حصے کے لیئے آٹھ روپے، جائیداد کی قیمت کے تحت۔</p>	<p>(a) غیر منقولہ جائیداد کی صورت میں جو زرعی زمین یا زرعی مقاصد کے علاوہ ہو اور شہری ایراضی ہو۔</p>
<p>ہر ایک سو روپے یا اس کے کس حصے کے لیئے چھ روپے، جائیداد کی قیمت کے تحت۔</p>	<p>کسی دیگر صورت میں</p>

وضاحت: شق (a) "شہری ایریا" مطلب ہے:

W.P کے ۱۹۵۸
Act X کی دفعہ ۳
کی ترمیم

(i) سرکار کی طرف سے غیر منقولہ جائیداد ٹیکس ٹیکس ایکٹ، ۱۹۵۸ کی دفعہ ۳ کے تحت بتائی گئی ایراضی؛ یا

Amendment of
Section 3 of
W.P Act X of
1958

(ii) وہ ایراضی جو ایسی زمین سے وابستہ ہو، جس کو عمارت کی سائٹ کے طور پر لیا گیا ہو، یا اس سے شامل ہو اور جس کو سرکار کی طرف سے شہری ایراضی قرار دیا گیا ہو۔

W.P کے ۱۹۶۳
Act IX کی منسوخی

۳۔ سندھ انٹرنیمنٹ ڈیوٹی ایکٹ، ۱۹۵۸ کی دفعہ ۳ کی ذیلی دفعہ (۱) کے لیئے سوائے مندرجہ ذیل شرطیہ بیانون اور وضاحت کے، مندرجہ ذیل دفعہ تبدیل کی جائے گی:

Repeal of W.P.
Act IX of 1963

"(۱) تفریح کے لیئے داخل ہونے پر ۷۵ فیصد ڈیوٹی لگائی جائے گی، جو سرکار کو دی جائے گی۔"

۴۔ سندھ فنانس ایکٹ، ۱۹۶۳ کو منسوخ کیا جاتا ہے۔

نوٹ: ایکٹ کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت کے لئے ہے، جسے کورٹ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔